

سندھ ایکٹ نمبر XVII مجریہ ۲۰۱۴

SINDH ACT NO.XVII OF 2014

سندھ مالیاتی ایکٹ، ۲۰۱۴

THE SINDH FINANCE ACT, 2014

فہرست (CONTENTS)

تمہید (Preamble)

دفعات (Sections)

۱. مختصر عنوان اور شروعات

Short title and commencement

۲. ۲۰۱۰ کے سندھ مالیاتی ایکٹ XIII کی ترمیم

Amendment of Sindh Finance Act XIII of 2010

۳. ۱۸۹۹ کے اسٹیپ ایکٹ نمبر II کی ترمیم

Amendment of Stamp Act No.II of 1899

۴. ۲۰۱۱ کے سندھ ایکٹ نمبر XII کی ترمیم

Amendment of Sindh Act No.XII of 2011

سندھ ایکٹ نمبر XVII مجریہ ۲۰۱۴

SINDH ACT NO.XVII OF 2014

سندھ مالیاتی ایکٹ، ۲۰۱۴

THE SINDH FINANCE ACT, 2014

[۸ جولائی ۲۰۱۴]

ایکٹ جس کے ذریعے سندھ صوبے کے اندر کچھ ٹیکس اور ڈیوٹیز ترتیب دی، لگائی اور ان میں اضافہ کیا جائے گا اور سندھ صوبے میں کچھ قوانین میں ترمیم کی جائے گی۔

تمہید (Preamble)

جیسا کہ سندھ صوبے کے اندر کچھ ٹیکسز، اور ڈیوٹیز میں ترمیم کرنا ضروری ہو گیا ہے؛

مختصر عنوان اور شروعات

جس کو اس طرح سے عمل میں لایا جائے گا۔

Short title and commencement

1. (1) اس ایکٹ کو سندھ مالیاتی ایکٹ، ۲۰۱۴ کہا جائے گا۔

۲۰۱۰ کے سندھ مالیاتی ایکٹ XIII کی ترمیم

(۲) یہ پہلی جولائی ۲۰۱۴ پر اور اس کے بعد لاگو ہو گا۔

Amendment of Sindh Finance Act XIII of 2010

۲. سندھ مالیاتی ایکٹ، ۲۰۱۰ کی دفعہ ۴ میں؛

(i) ذیلی دفعہ (۲) میں شق (i) کے بعد مندرجہ ذیل شقوں کا اضافہ کیا جائے گا:-

”(j) مارکیٹ نرخ“ سے مراد جائیداد کے مناسب نرخ بورڈ آف روینوسندھ کی طرف سے نوٹی فائی کی گئی اتھارٹی کی طرف سے فنانس ڈیپارٹمنٹ کی مشاورت سے طے کیئے جائیں گے، بشرطیکہ ایسے

مارکیٹ نرخ و بلیویشن ٹیبیل میں گنائے گئے نرخ سے کم نہیں ہوں گے؛
 ”(k) ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ“ سے مراد سیکوریٹی ایکسچینج
 کمیشن آف پاکستان سے رجسٹرڈ شدہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ؛
 ”(i) و بلیویشن ٹیبیل“ سے مراد اسٹیٹ ایکٹ، ۱۸۹۹ (۱۸۹۹) کا
 ایکٹ نمبر II) کی دفعہ 27-A کے تحت بیان کی گئی و بلیویشن ٹیبیل؛
 ”(ii) ذیلی دفعہ (۳) میں، آئٹم نمبر A(i), B(i), C(i) کے کالم ۲
 میں، الفاظ ”ریکارڈنگ کیئے گئے“ کے لیے لفظ ریکارڈ کیئے گئے یا
 و بلیویشن ٹیبیل کے مطابق جو زائد ہو؛ تبدیل کیا جائے گا۔
 ”(iii) ذیلی دفعہ ۸ کے بعد مندرجہ ذیل نئی ذیلی دفعہ شامل کی جائے
 گی؛

”(۹) جب تک کچھ اس ایکٹ میں شامل نہ ہو، تمام جائیداد کے لیے
 کیپٹل و بلیو ٹیکس ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کی طرف اور اس کی
 طرف منتقل ہونے والی جائیداد مارکیٹ نرخ پر ایک فی صد کے حساب
 سے چارج کی جائے گی۔

(۱۰) ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کو یا اس سے منتقل ہونے والی
 تمام جائیدادوں کے لیے جائیداد کے مارکیٹ نرخ کے 0.5 فی صد کے
 برابر رجسٹریشن فیس وصول کی جائے گی۔

۳. اسٹمپ ایکٹ، ۱۸۹۹ میں، سندھ صوبے میں نافذ کرنے کے لیے شیڈول میں؛

۱۸۹۹ کے اسٹیمپ ایکٹ نمبر II

کی ترمیم

Amendment of Stamp

Act No. II of 1899

(a) آر ٹیکل ۲ کے کالم ۲ میں لفظ ”بیس کے

(b) لیے لفظ پچاس متبادل ہوگا“

(c) آر ٹیکل ۳ کی شقوں (a), (b), (c) اور (d) میں، کالم ۲ میں الفاظ دو

دو، ایک اور ایک کے لیے لفظ ”پانچ، پانچ، پانچ اور دو“ ترتیب وار

متبادل ہوں گے؛

(d) آرٹیکل ۴ کے لیے مندرجہ ذیل متبادل ہوں گے؛

۲۰۱۱ کے سندھ ایکٹ نمبر XII کی
ترمیم
Amendment of Sindh
Act No. XII of 2011

۴. ڈولپر، بلڈر، کوآپریٹو سوسائٹی، ہاؤسنگ سوسائٹی اور ہاؤسنگ اتھارٹی یا کسی دوسری بورڈ یا تنظیم کی طرف سے لیز سے پہلے جاری کی گئی الاٹمنٹ آرڈیا الاٹمنٹ کی منقلی؛

A- کھلے ہوئے پلاٹوں کے سلسلے میں:-

(i) رہائشی پلاٹس-

(a) ۳۹۹ اسکوائر گز تک دس روپے فی اسکوائر گز

(b) ۴۰۰ اسکوائر گز یا اس سے تیس روپے فی اسکوائر گز

زائد

(ii) کمرشل پلاٹس چالیس روپے فی اسکوائر گز

(iii) صنعتی پلاٹس بیس روپے فی اسکوائر گز

B- بلٹ اپ پراپرٹی کے سلسلے میں:-

(i) رہائشی گھر دس روپے فی اسکوائر فٹ

(ii) رہائشی فلیٹ پانچ روپے فی اسکوائر فٹ

(iii) کمرشل آفیسز / احاطے پندرہ روپے فی اسکوائر فٹ

(iv) صنعتی یونٹس / فیکٹریز پندرہ روپے فی اسکوائر فٹ

(d) آرٹیکل ۶ کے کالم ۲ میں لفظ ”پچاس“ کے لیے لفظ ”ایک سو“ متبادل

ہوگا؛

(e) آرٹیکل ۹ میں، کالم ۲ میں داخلہ کے لیے مندرجہ ذیل متبادل ہوگا؛

”تین سو روپے“

(f) آرٹیکل ۱۰ کی شق (A) کے کالم ۲ میں لفظ ”دو“ کے لیے لفظ ”پانچ“ متبادل

ہوگا؛

(g) آر ٹیکل ۵ کی شق (a) میں، کالم 1 میں الفاظ ”انجینئرنگ کنسلٹنسی“ کے لیے لفظ یا کوئی دوسری خدمات متبادل ہوں گی؛

(h) آر ٹیکل ۷ کے کالم ۲ میں لفظ ”دو“ کے لیے لفظ ”پانچ“ متبادل ہوگا؛

(i) آر ٹیکل ۲۰ کے کالم 1 اور ۲ میں داخلوں کے لیے مندرجہ ذیل متبادل ہونگے؛

سٹیلنٹ نہ ہونے کی صورت میں تحفے کا دستاویز (نمبر ۳۰) یا وصیت یا منتقلی نمبر

(۳۱)

(i) شریک حیات، والد، والدہ، کنونینس No. 16-A (iii) پر

بیٹا، بیٹی، دادا، نانا، پوتے، لگانے لائق ڈیوٹی کا ایک حصے کا

نواسے، بھائی اور بہن کے پانچواں حصہ۔

ماہین کیئے گئے۔

(ii) اوپر سے زائد کنونینس No. 16-A (iii) لگانے

لائق وہی ڈیوٹی۔

(j) آر ٹیکل ۲۱ کی شق (i) کے لیے مندرجہ ذیل متبادل ہوں گے؛

”(i) جہاں کھلے پلاٹس پر لیز، فلیٹس، ویلوشن ٹیبل کے تحت ایک فی صد

دوکانوں، دفاتر، ٹائون ہاؤسز اور بنگلے

کے سلسلے میں تقسیم شدہ حصے کے

حق کے ساتھ یا دوسری صورت میں

پلاٹ جہاں ویلوشن ٹیبل کے تحت

اس کے نرخ طے کیئے گئے ہوں۔

(k) آر ٹیکل ۲۱ کی شق (ii) کے کالم 1 میں الفاظ ”کے سلسلے میں“ کے لیے

الفاظ ”کھلے ہوئے یا“ شامل کیئے جائیں گے اور کالم ۲ میں الفاظ ”تین“ کے لیئے
الفاظ ”دو“ متبادل ہوں گے؛

(1) آر ٹیکل ۲۲ کے کالم میں الفاظ ”ایک سو“، ”دو سو“ اور ”پانچ سو“ کے لیئے
الفاظ ”چار سو“ اور ”ایک ہزار“ ترتیب وار متبادل ہوں گے؛

(m) آر ٹیکل ۲۹ کے کالم ۲ میں عدد ”1“ کے لیئے عدد ”۲“ متبادل ہوگا؛

(n) آر ٹیکل ۳۰ کی شق (ii) کے کالم ۲ میں الفاظ ”دفعہ 27-A اور 27-B
کے تحت“ کے بعد لفظ یا سٹلڈ منقولہ جائیداد کے نرخ کا پانچواں حصہ“ شامل
کیئے جائیں گے۔

۴۔ سندھ خدمات پر سیلز ٹیکس ایکٹ، ۲۰۱۱ میں،

(i) دفعہ ۲ میں؛

(a) شق (۲۰) کے بعد مندرجہ ذیل شقیں شامل کی جائیں گی، یعنی؛

”20A) ”کال سینٹر“ سے مراد ایک انتظامیہ جو ٹیلی فون، فیماں
لائو سپورٹ سوفٹ ویئر، سوشل میڈیا اور ای میل کے ذریعے درخواستیں
وصول کرنے یا بھیجنے کی خدمات فراہم کرتی ہو یا پیشکش کرتی ہو یا پھر چاہے وہ
پروڈکٹ سپورٹ یا کسی شخص کی کاروباری مدد یا گاہکوں کی طرف سے جانچ
پڑتال کی معلومات کے لیئے یا ٹیلی مارکیٹنگ، عطیات اور سبسکریپشنز کی
سولیٹنگ، قرض کی وصولی، مارکیٹ ریسرچ یا اس قسم کی دوسری خدمات کے
لیئے؛

(20B) ”کار یا آٹو موبائل ڈیلر“ کسی بھی نام سے ہو، سے مراد ایک شخص
جو خرید فروخت، منتقلی، مارکیٹنگ یا کاروں اور آٹو موبائلز کی بکنگ، پھر چاہے وہ
امپورٹیڈ ہوں یا مقامی طور پر ایسیبلڈ یا مقامی طور پر بنی ہوئی، بشمول نئی، پرانی
اور استعمال شدہ کار یا آٹو موبائلز کی؛

(20C) ”کار یا آٹو موبائل واشنگ یا ویسی ہی سروس اسٹیشن“ سے مراد ایک سروس اسٹیشن یا سروس سینٹر یا ایک اسٹبلشمنٹ جو کاروں یا آٹو موبائیلز کی مرمت کے سلسلے میں خدمات فراہم کرے یا پیش کرے، بشمول جانچ پڑتال کی خدمات، تفضیلات، دھونے، صاف کرنے، پالش کرنے، ویکنگ، آئل کوٹنگ، سبریکٹنگ، ٹیونگ، تیل، فلٹرز اور پلگز ڈینٹنگ، پینٹنگ، مرمت کرنا اور دوسری اس قسم کی خدمات فراہم کرنا اور پیش کرانے کی (b) شق (۳۹) کے بعد مندرجہ ذیل شق شامل کی جائے گی، یعنی؛

” (39A) ”اپیکسچنج“ سے وہی مراد ہے جیسا کہ اس کو سیکورٹیز اینڈ اپیکسچنج آرڈیننس ۱۹۶۹ (۱۹۶۹ کے آرڈیننس نمبر XVI) کی دفعہ ۲ کی ذیلی دفعہ (1) کی شق (da) میں ہے۔

(c) شق (۴۲) کے بعد مندرجہ ذیل شق شامل کی جائے گی، یعنی؛

” (42A) ”فیشن ڈیزائنر“ سے مراد ایک جو نظریاتی، آؤٹ لائننگ، نمونے بنانے اور کپڑوں کے لیے نمونے اور طریقے تیار کرنے، کپڑوں، گارمنٹس، لباس سے متعلق زیورات، فٹ ویئر یا اس سے متعلقہ یا ایسی فیشن ڈیزائننگ سے ملتے جلتے کاموں سے متعلقہ معاشی سرگرمیوں سمیت فیشن ڈیزائننگ کی خدمات فراہم یا پیش کرتا ہو؛

(d) شق (۴۷) کے بعد مندرجہ ذیل شقیں شامل کی جائیں گی، یعنی؛

” (47A) ”فیوگیٹیشن سروسز“ سے مراد ایک شخص کی طرف سے فراہم کی جانے والی یا پیش کی جانے والی خدمات کیڑوں اور کیڑوں پر ضابطہ لانے کے سلسلے میں، جس میں شامل ہے وہ خدمات جو احاطوں، عمارتوں، فیکٹریاں اور کامپلیکسز، بشمول کمرشل کامپلیکسز، شاپنگ کامپلیکسز، آفس کامپلیکسز، اپارٹمنٹ یا رہائش کامپلیکسز، ملٹی کامپلیکسز، نمائش مراکز، رہائش، کاروباری،

آفیسز اور کمرشل اشیاء کے لیے فراہم کی جانے والی یا پیش کی جانے والی خدمات، لیکن جس میں وفاقی حکومت شامل نہیں ہوں گی، صوبائی حکومت، مکانی حکومت یا کٹونمنٹ بورڈ کی طرف سے فراہم کی جانے والی یا پیش کی جانے والی پبلک ہیلتھ سروسز اور زراعت، ہارٹیکلچر، اینمیل ہسبنڈری اور ڈیری فارمنگ کے سلسلے میں فراہم کی جانے والی خدمات؛

(47B) ”فنڈ اور اثاثوں کے انتظام کے خدمات“ جس میں شامل ہے اثاثوں کا انتظام، جمع پونجی کا انتظام اور فنڈ کی تمام اقسام کے لیے فراہم کی جانے والی یا پیش کی جانے والی تمام خدمات؛

(e) شق (۵۴) کے بعد مندرجہ ذیل شقیں شامل کی جائیں گے، یعنی؛

” (54) ”انٹریز ریکوریٹر“ سے مراد ایک شخص جو واسطہ یا بالواسطہ کوئی مشورہ، تجویز، فنی مدد یا کسی دوسرے معاملے میں، منصوبے بندی، ڈیزائن، بناؤ، سنگھار، زیورات، آرٹیشن، سجاوٹ یا اندرونی اور بیرونی جگہ پھر چاہے وہ ہاتھ سے بنی ہوئی ہو یا دوسرے طریقے جس میں شامل یا دوسرے طریقے جس میں شامل ہے لینڈ اسکیپ ڈزائینز، کسی بھی فرنٹنگ سے متعلقہ خدمات فراہم یا پیش کر رہا ہو؛

(f) شق (۵۵) کے بعد مندرجہ ذیل شقیں شامل کی جائیں گی؛ یعنی

” (55A) ”لیبر اور مین پاور سروسز“ جس میں شامل ہے ایک شخص کی طرف سے دوسرے شخص کو فراہم کردہ یا پیش کردہ خدمات، کسی شخص یا فرد، ملازمت پر رکھے ہوئے، تنخواہ کی خدمات کے استعمال کے لیے یا جو اس کی طرف سے فراہم کی جائیں؛

(55B) ”لانڈریز اور ڈرائی کلینرز“ سے مراد ایک جو دوسرے شخص کو دھونے، استری کرنے، داغ ہٹانے، وارنگ یا کسی بھی قسم کے کپڑوں، رفر، یا

اس قسم کے [مڑے کے سامان مثلاً ایپرنز، کپڑے، گارمنٹس، فلور کورنگس، کرٹنز، ڈرپرز، لائنز، بیڈ وئیر اور اس سے متعلقہ سامان کی خدمات فراہم کرتا ہو یا پیش کش کرتا ہو؛“

(g) شق (۵۶) کے بعد مندرجہ ذیل شقیں شامل کی جائیں گی، یعنی،

”56A) ”مرمت یا صفائی کی خدمات“ سے مراد وہ خدمات جو مرمت، مینٹنس اور صفائی سے متعلق فراہم کی جائے یا پیش کش کی جاتی ہو، بشمول

اسپیشلائزڈ کلیننگ سروسز مثلاً انکلیمنگ، ایکسٹریکشن یا اسٹروائیزنگ؛

(i) آفس کا سامان، عمارت، کمرشل یا صنعتی بلڈنگ اور اس سے منسلک احاطے

وغیرہ؛

(ii) کمرشل کمپلیکسز بشمول ملٹی پلکسز، شاپنگ کمپلیکسز، آفس کمپلیکسز، نمائشی مراکز، اپارٹمنٹس یا رہائشی کمپلیکسز؛ اور

(iii) فیکٹریز، اور پلانٹس یا مشینری اور ایسی فیکٹریز یا آفس یا کمرشل

یا صنعتی عمارت یا کمرل کمپلیکسز کے سامان اور ایویئرز، اسکیلٹرز، ٹنکیاں

اور گودام کو، پر جس میں شامل نہ ہو ایسی خدمات جو زراعت، اینمیل

ہسبنڈری اور ڈیری فارمنگ سے منسلک ہوں۔“

(h) شق (۷۶) کے بعد مندرجہ ذیل شقیں شامل کی جائیں گی، یعنی

”67A) پروڈکشن ہاؤس“ سے مراد ایک شخص یا پروگرام بتانے والی

اسٹبلشمنٹ یا پروگرامز کی پیداوار کے سلسلے میں مختلف خدمات، سہولیات،

یوٹیلیٹیز یا فوائد فراہم کرنا یا پیش کش کرنا؛

(677B) ”پروگرام“ کو آڈیو یا ویڈیو مواد، کے ذریعے، یا ریکارڈ شدہ، جو

ایکٹرو گینٹنگ ویوز کی ٹرانسمیشن کے ذریعے ایس یا عام عوام کی طرف سے

واسطہ یا بالواسطہ کیبلز کے ذریعے کیبلز ٹیلی کمیونیکیشن یا ریڈیو اسٹیشن

میڈیم کے ذریعے پہچانے کا ارادہ ہو؛

”(67C) ”پروگرام پروڈیوسر“ سے مراد ایک شخص جو کسی دوسرے شخص کی طرف سے یا اس کے لیے ایک پروگرام پروڈیوس کرے؛

”(67D) ”پراپرٹی ڈیلر“ جسے ان میں سے کسی بھی نام سے پکارا جائے، جیسے ایک، شخص جو واسطہ یا بالواسطہ کسی بھی طریقے ریل اسٹیٹ کی خرید و فروخت، لیزنگ، کرائے پر دینے، نظرداری، مینٹنس، مارکیٹنگ، حاصلات یا انتظام سے متعلق خدمات فراہم کرتا ہو پیش کش کرتا ہو، اور جس میں شامل ہے ایک ریلیٹر، ایک ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹ؛“

(i) شق (69) کے بعد مندرجہ ذیل شقیں شامل کی جائیں گی، یعنی؛

(69-A) ”ریل اسٹیٹ“ سے مراد زمین اور جس میں شامل ہے؛

اور جس میں شامل ہے؛

(i) زمین کی اندرونی اور بیرونی تمام ایچیمینٹس؛

(ii) تمام اشیاء جو زمین کو قدرتی طور پر جوڑ دیں؛

(iii) تمام اشیاء جن کو بڑھایا یا لگایا گیا ہے؛

بشمول عمارتوں اور سائٹ امپرووینٹس کے؛ اور

(iv) تمام مستقل عمارتیں ایچیمینٹس مثلاً پلنگ، گرم اور ٹھنڈے رکھنے کا نظام، بجلی کی وائرنگ اور بلٹ ان آئٹمز مثلاً الیویٹرز اور ملحقہ سامان اور اس سلسلے میں تمام حقوق اور قواعد، پھر چاہے وہ قواعد فری ہولڈ ہوں یا سیز ہولڈ ہوں اور پھر ان کے استعمال کا مقصد رہائش کے لیے ہوں، کمرشل یا انڈسٹریل؛

(69B) ”ریکروٹنگ ایجنٹ“ کسی بھی نام سے پکارا جائے، جس میں شامل ہے ریکروٹنگ کنسلٹنس یا کنسلٹنسی اور اس سے مراد ایک شخص جو واسطہ یا بالواسطہ کسی شخص کو کسی بھی معاملے میں عارضی طور یا دوسرے طریقے میں

پاور کی بھرتی کے لیے کسی طریقے کی کوئی خدمت فراہم کر رہا ہو یا پیشکش کر رہا ہوں؛

وضاحت: اس شق کے مقصد کے لیے ”بھرتی“ جس میں شامل ہے بھرتی کے لیے درخواستیں منگوانا، امیدواروں سے درخواستیں وصول کرنا، انٹرویو سے پہلے یا بھرتی سے پہلے درخواست گزار امیدواروں کی اسکریننگ، درخواست گزاروں کو شارٹ لسٹ کرنا، امیدواروں کی کریڈنٹشلز اور انٹیسڈنٹس کی تصدیق، امیدواروں کی طرف سے جمع کرائے گئے دستاویزات کی انیسٹنسی کی تصدیق کرنا؛

(69C) ”کسی مسئلے کے لیے ”رجسٹرار“ سے مراد ایک شخص جو سیکورٹیز کے متعلق مسئلے بشمول سرمایہ کاروں سے درخواست فارم جمع کرنا، درخواستوں کا ریکارڈ رکھنا اور سرمایہ کاروں سے حاصل کی گئی رقم یا سیکورٹیز کے سیلر کو ادا کی گئی رقم کا ریکارڈ رکھنا، سیکورٹیز کی الاٹمنٹ کا بنیاد کرنے میں مدد کرنا، سیکورٹیز کی الاٹمنٹ کے لیے گنوائے گئے افراد کی حتمی فہرست بنانا اور الاٹمنٹ لیٹرز کی پروسیسنگ اور ڈسپینچنگ، ری فنڈز آرڈرز یا سرٹیفکیٹ اور دوسرے منسلک دستاویزات کا ریکارڈ رکھنا۔“

(i) شق (۷۲) کے بعد مندرجہ ذیل شقیں شامل کی جائیں گی، یعنی۔

” (72A) ”رینٹ آکار اور آٹو موبائل رینٹل سروس“ سے مراد ایک اور شخص کی طرف سے واسطہ یا بالواسطہ کرائے پر کاریں، کیبز، وینز یا کوئی پسینجنز موٹر گاڑی کی معاشی سرگرمی کے لیے فراہم کی جانے والی خدمات یا پیشکش کی جانے والی خدمات“؛

(k) شق (۷۷) کے بعد مندرجہ ذیل شق شامل کی جائے گی، یعنی؛

” (77A) ”سیکیورٹیز“ سے یہاں وہی مراد ہے جو اسے سیکورٹیز اور ایکسچینج

آرڈیننس 1969 (1969 کے آرڈیننس نمبر XVII) کی دفعہ ۲ کی ذیلی دفعہ (1) کی شقوں (d) اور (L) میں دی گئی ہے۔“

(1) شق (۷۹) کے بعد مندرجہ ذیل شق شامل کی جائے گی، یعنی؛

”79A) ”شیر ٹرانسفر ایجنٹ“ سے مراد ایک شخص جو سیکیورٹیز رکھنے والوں کے ریکارڈ کو سنبھالنے اور سیکیورٹیز کی منتقلی یا ریڈیمیشن سے متعلقہ تمام معاملات کو دیکھنا یا اس سے متعلقہ سرگرمیوں کو دیکھنے؛

(m) شق (۹۴) میں ذیلی شق (C) کے لیے مندرجہ ذیل متبادل ہوگا؛

”e) دفعہ ۱۶ کے تحت جمع کی گئی ٹیکس کی رقم ادا کرنے میں ناکامی پر اور دفعہ ۱۳ کی ذیلی دفعہ (۲) کی گنجائشوں کے تحت یا اس سلسلے میں بنائے گئے قواعد کے تحت لگائے گئے ٹیکس کی رقم ادا کرنے میں ناکامی پر یا (f) ٹیکس ادائیگی کی کم ادائیگی یا ٹیکس کریڈٹ کے بیان کیے گئے سے زائد یا ناقابل قبول ٹیکس کریڈٹ ایڈجسٹمنٹ یا دعویٰ کرنے یا حاصل کرنے، ری فنڈ یا ایڈجسٹمنٹ؛ یا (g) بیان شدہ ٹیکس ریٹرن نہ بھرنے یا مسلسل چار مہینوں یا زائد کے لیے بیان کی گئی اسٹیٹمنٹ:“

(n) شق (۹۶) کے بعد مندرجہ ذیل شقیں شامل کی جائیں گی، یعنی:

”96A) ”فنی سائنسی اور انجینئرنگ کنسلٹنٹس“ سے مراد ایک شخص جو واسطہ یا بالواسطہ کسی شخص کو کسی بھی طریقے کے فنی، سائنسی اور انجینئرنگ خدمت، مشورہ کنسلٹنسی مدد یا سپر ویشن دے رہا ہو یا پیش کش کر رہا ہو، ٹیکنالاجی، سائنس اور انجینئرنگ کے ایک یا اس سے زائد معاملات میں اور جس میں شامل ہے ایک شخص جو پاکستان انجینئرنگ کائونسل ایکٹ، ۱۹۷۵ (۱۹۷۶) کے ایکٹ نمبر V) کے تحت کنسلٹنٹ انجینئر یا پرو نیشنل انجینئر کے طور پر جانا جاتا ہو یا سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس ۱۹۷۹ (۱۹۷۹) کے سندھ آرڈیننس نمبر

(V) کے تحت تعمیراتی انجینئر کے طور پر جانا جائے گا۔

(96B) ”فنی جانچ اور چھان بین“ سے مراد سے خدمت جو طبی، کیمیائی، حیاتیاتی یا کوئی دوسری سائنسی اشیاء یا سامان یا انفارمیشن ٹیکنالاجی سافٹ ویئر یا کسی غیر منقولہ ملکیت کی جانچ پڑتال یا چھان بین کے لیے فراہم کرے یا پیش کش کی جاتی ہو، جس میں شامل ہے ادویات، فارما سوشیکلز اور فارمولیشنز کی لٹسنگ اور چھان بین کے لیے کلنیکل ٹیسٹنگ، لیکن جس میں شامل نہ ہوگی انسان ذات یا جانوروں کے سلسلے میں فراہم کی جانے والی کوئی جانچ پڑتال یا چھان بین کی خدمت“: اور

(o) شق (98) کے بعد مندرجہ ذیل شقیں شامل کی جائیں گی، یعنی:

” (98A) ٹور آپریٹر“ سے مراد ایک شخص جو منصوبہ بندی، شیڈولنگ، آرگنائزنگ یا ٹور کا انتظام کرنا یا پیکیج ٹورز کا انتظام کرنا یا پیکیج ٹورز کے متعلق خدمات فراہم کرے یا پیش کش کر رہا ہو (جس میں شامل ہے) رہائش، نظارے دیکھنا، سیاحت یا پاکستان میں بیرون ملک میں اسی قسم کی دوسری خدمات کا انتظام، کسی بھی قسم کی ٹرانسپہرٹ کے ذریعے اور جس میں شامل ہے ایک شخص جو ٹورز کا انتظام کرنے میں تجارتی یا معاشی سرگرمی میں مصروف ہو۔

وضاحت: اس شق کے مقصد کے لیے اظہار ”ٹور“ میں شامل ہے ایسا سفر جو کسی تعلیمی ادارے کی طرف سے آرگنائز کیا گیا ہو یا انتظام کیا گیا ہو سوائے کسی کمرسل، تربیتی یا کوچنگ سینٹر کے، جس کی طرف سے ہنر یا معلومات یا کسی مضمون یا شعبے کے متعلق اسباق کے لیے انتظام کیا گیا ہو:

(ii) دفعہ ۳ کی ذیلی دفعہ (۴) میں الفاظ ”حکومت کی منظوری سے اور“ کو ختم کیا جائے گا؛

(iii) دفعہ ۴ کی ذیلی دفعہ (1) میں الفاظ ”لگاتار یا مستقل طور“ کو ختم کیا

جائے گا؛

(iv) دفعہ ۹ کی ذیلی دفعہ (۳) میں الفاظ بورڈ، حکومت کی منظوری سے، کے لفظ بورڈ، ”بورڈ“ کو متبادل بنایا جائے گا؛

(v) دفعہ ۱۵ میں:

(a) الفاظ اور کا ”بورڈ کر سکتا ہے“ کے بعد لفظ اور کا ”سرکاری

گریٹ میں نوٹی فکیشن کے ذریعے اور“ شامل کیا جائیں گے؛ اور

(b) الفاظ ”اور حکومت کی منظوری سے“ کو ختم کیا جائے گا؛

(vi) دفعہ ۷ کی ذیلی دفعہ (1) کے لیے مندرجہ ذیل متبادل ہوگا؛

(j) ایک شخص کی طرف سے ٹیکس کے عرصے کے دوراں فراہم کی گئی یا

پیش کش کی گئی یا پیش کش کی گئی ٹیکس لائق خدمت کے سلسلے میں

ٹیکس، ادائیگی کے لیے بیان کردہ مقرر تاریخ کے دوراں ادا کی جائے

گی“؛

(vii) دفعہ ۲۳ کی ذیلی دفعہ (۴) میں، الفاظ ”تیس دن سے زائد نہیں“ کو ختم

کیا جائے گا؛

(vii) دفعہ ۲۶ میں؛

(a) ذیلی دفعہ (1) میں، لفظ ”اردو“ کے بعد لفظ یا ”سندھی“ شامل

کیا جائے گا؛ اور

(b) ذیلی دفعہ (۵) میں؛

(i) عدد اور کا ”۱۹۸۴“ کے بعد لفظ اور کا ”یا وقتی طور لاگو کسی

دوسرے قانون کے تحت“ کا اضافہ کیا جائے گا؛ اور

(ii) الفاظ ”سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹ کی نقل مطلوب ہوگا“ کے

لفظ ”آڈیٹرز کی آڈٹ رپورٹ والی تاریخ کے ۶۰ دن کے

اندر اسسٹنٹ کمشنر کو سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی پرنٹ

شدہ نقول جمع کرانا“ متبادل بنایا جائے گا؛

(ix) دفعہ ۳۶ کی ذیلی دفعہ (۱) کی شق (a) میں، الفاظ ”کمشنر، ایس آر بی“

کے بعد لفظ ”یا ایک کمشنر اپیلز ایس آر بی شامل کیئے جائیں گے؛“

(x) دفعہ ۴۳ کی ٹیبل میں؛

(a) کالم (۲) میں، ”عدد 5,000 جہاں جہاں آئے، عدد 10,000“ کو

متبادل بنایا جائے گا؛

(b) کالم (۲)، الفاظ ”تین فیصد“ جہاں آئے، لفظ ”پانچ فیصد“ کو

متبادل بنایا جائے گا؛

(c) کالم (۲) میں داخلوں کے لیئے جریان نمبر ۲ کے سامنے، مندرجہ

ذیل متبادل ہوگا؛

(cc) کسی صورت میں درخواست گزار دفعہ ۶۷ یا دفعہ ۷۰ کی شرائط کے

مطابق ایجنٹ یا بااختیار بنائے گئے نمائندے کے ذریعے پیش ہونے کا

خواہشمند ہو تو اس کے پاس بااختیار بنانے کا لیٹر ہونا چاہے، جیسا کہ بیان کیا

گیا ہو؛

(iii) ذیلی دفعہ (۳)؛

(a) شق (i) میں لفظ ”ایک“ کے لیئے لفظ ”دو“ متبادل ہوگا؛

(b) شق (ii) میں لفظ ”دو سو“ کے لیئے لفظ ”ایک ہزار“ متبادل

ہوگا؛

(iii) ذیلی دفعہ (۴) کے لیئے مندرجہ ذیل متبادل ہوگا؛

(۴) اس دفعہ کے تحت کمشنر (اپیلز) کو اس تاریخ کے تیس دن کے اندر

بھیجی جائے گی، جس تاریخ پر اپیلیٹ پر حکم یا فیصلہ سنایا جائے گا؛

(xiv) دفعہ ۵۹ میں؛

(a) ذیلی دفعہ (۵) میں بریکٹ اور عدد ”(3) کے لیے بریکٹس اور عدد

(1) متبادل ہوگا؛“

(b) ذیلی دفعہ (۶) میں، الفاظ ”تیس دن سے زائد نہیں“ ختم کیا جائے

گا؛ اور

(c) ذیلی دفعہ (۷) اور (۸) کے لیے مندرجہ ذیل متبادل ہوگا؛

(۷) جہاں کمشنر (اپیلز) ذیلی دفعہ (1) کے تحت حکم جاری کیا ہو، ذیلی دفعہ

۵ کے تحت ذیلی دفعہ (۵) کے تحت بیان شدہ معیار ختم ہونے سے پہلے،

ذیلی دفعہ (۵) کے تحت بیان شدہ معیار ختم ہونے سے پہلے، ذیلی دفعہ (۶)

کے ساتھ پڑھیں، کمشنر (اپیلز) غیر طے شدہ اپیل اپیلیٹ ٹریبونل کی

طرف منتقل کرے گا، غیر طے کے حکم کے خلاف فائل کی گئی ہو؛

بشرطیکہ غیر طے شدہ اپیل اپیلیٹ ٹریبونل کی طرف منتقل کرتے وقت،

کمشنر اپیلز اس سلسلے میں اپیلیٹ اور ایجنٹ یا مجاز نمائندے اور بورڈ کے

چیئرمین کو ایک مقرر وقت دے گا۔

۸. غیر طے شدہ اپیل اپیلیٹ ٹریبونل کی طرف منتقل کرتے وقت (اپیلز)

ایک رپورٹ ساتھ لگائے گا جس میں حالات اور اسباب بیان کئے گئے

وہنگے، جن اسباب کی وجہ اپیل پر مقررہ وقت کے دوران فیصلہ نہ ہو سکا

ہے؛“

(XV) دفعہ ۶۰ میں؛

(a) لفظ ”اکائونٹنٹ میمبر“ جہاں بھی آئے لفظ ”ٹیکنیکل میمبر“ متبادل

ہوگا؛

(b) ذیلی دفعہ (۳) میں، شق (a) کے لیے مندرجہ ذیل متبادل ہوگا؛

(a) جوہائی کورٹ کانج ہے یا رہ چکا ہو یا ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹ ہے یا رہ چکا ہو، ڈسٹرکٹ اور بطور سیشن جج کم از کم دو سالوں کی سروس ہو؛“ اور

(c) ذیلی دفعہ (۵) میں الفاظ ”تین سال“ کے لیے لفظ ”پانچ سال“ متبادل ہوگا؛

(xvi) دفعہ ۶۱ میں؛

(a) ذیلی دفعہ (1) میں، الفاظ ”طرف سے منظور شدہ“ کے بعد لفظ اور عدد ”دفعہ ۵۵ کے تحت کمشنر شامل کیئے جائیں گے؛“ اور

(b) ذیلی دفعہ، (۲) میں؛

(i) شق (b) کے بعد مندرجہ ذیل شق شامل کی جائے گی، یعنی؛

” (bb) اس صورت میں جب اپیلنٹ دفعہ ۶۷ یا دفعہ ۷۰ کی

شرائط کے مطابق ایجنٹ یا مجاز نمائندوں کے ذریعے پیش ہونا

چاہے، اس کے پاس باختیار ہونے کا لیٹر ہونا چاہے، جیسا بیان

کیا گیا ہو؛ اور“

(ii) شق (d) میں الفاظ ”کا حکم“ کے بعد لفظ کمشنر یا بورڈ یا

”شامل“ کیئے جائیں گے؛

(xvii) دفعہ ۷۲ کی ذیلی دفعہ (1) میں الفاظ ”حکومت کی منظوری سے“

لفظ ”سرکاری گزٹ میں نوٹی فکیشن کے ذریعے“ شامل کیئے جائیں گے؛

(xviii) دفعہ ۸۳ کی ذیلی دفعہ (۳) میں عد ”1“ کے بعد لفظ منسوخ کیئے

گئے آرڈیننس کا ”شامل کیئے جائیں گے“؛

(xix) عنوان ”پہلا شیڈول“ مندرجہ ذیل بریکٹس اور اعداد ”(۳۵)“

کے لیے بریکٹس اور عدد ”(۷۹)“ متبادل ہوگا؛

(xx) دوسرے شیڈول میں، ٹیبل کے حصے B میں؛

(a) کالم (۳) میں عدد ”۱۶ فی صد“ جہاں بھی آئے عدد ”۱۵ فی صد“ متبادل ہوگا؛

(b) کالم (۱) میں ٹیرف ہیڈنگ کے سامنے ”9802.4000“؛ کالم (۲) میں، کا ما اور لفظ کلاسیفائیڈ اشتہارات کے علاوہ ”ختم کیا جائے گا؛

(c) کالم (1) میں ٹیرف ہیڈنگ ”9805.4000“ کے بعد اور سامنے کلام (۲) اور (۳) میں داخلوں کے سامنے مندرجہ ذیل کو شامل کیا جائے گا؛
”9805.5100“ ٹور آپریٹرز ۱۵ فیصد؛

(d) کالم (1) میں ٹیرف ہیڈنگ ”9805.8000“ کے بعد اور اس کے سامنے کالم (۲) اور (۳) میں مندرجہ ذیل کو شامل کیا جائے گا؛

”9805.9000“ شیئر ایجنٹس منتقلی ۱۵ فیصد؛“

(e) کالم (1) میں، ٹیرف ہیڈنگ ”9805.9200“ کے بعد اور کالم (۲) اور (۳) میں داخلوں کے سامنے مندرجہ ذیل کو شامل کیا جائے گا؛

خرید و فروخت اور کرائے

پر لینے کے سلسلے میں فراہم

کردہ یا پیش کیش فراہم

کردہ خدمات؛

غیر منقولہ جائیداد کی خرید و ۱۵ فی صد 9806.1000

فروخت اور کرائے پر لینا

9806.2000 پراپرٹی ڈیلرز ۱۵ فی صد

9806.3000 کاریا آٹوموبائیلز ڈیلرز ۱۵ فی صد؛

(f) کالم (1) میں ٹیرف ہیڈنگ اور کالم

داخلوں کے ”9810.000“ مندرجہ (۲) اور

سامنے ذیل کو شامل (۳) میں

کیا جائے

گا؛

9811.000 لانڈریز اور کلیئرز کی طرف ۱۵ فی صد

سے فراہم کی جانے والی اور

پیش کش کی جانے والی

خدمات

(g) کالم (1) میں ٹیرف ہیڈنگ ”9814.3000“ کے بعد اور کالم

(۲) اور (۳) میں داخلوں کے سامنے مندرجہ ذیل کو شامل کیا

جائے گا؛

9814.9000 انٹریڈیکوریئر ۱۵ فی صد؛“

(h) کالم (1) میں ٹیرف ہیڈنگ ”9815.4000“ کے بعد اور کالم

(2) اور (3) میں داخلوں کے سامنے مندرجہ ذیل کو شامل کیا

جائے گا؛

9815.5000 فنی، سائنسی اور ۱۵ فی صد؛“

انجینئرنگ کنسلٹنٹس

(i) کالم نمبر (1) میں ٹیرف ہیڈنگ ”9819.2000“ کے بعد اور

کالم (۲) اور (۳) میں داخلوں کے سامنے مندرجہ ذیل کو شامل

9819.3000 ریٹ آ کار اور اٹو ۱۵ فیصد؛“

موبائل
ریٹ
سروس

کیا جائے گا؛

(j) کالم (1) میں ٹیرف ہیڈنگ 9819.7000 کے بعد اور کالم (۲)

اور (۳) میں داخلوں کے سامنے مندرجہ ذیل کو شامل کیا جائے
گا؛

9819.9000 کیبل ٹی وی آپریٹرز ۱۵ فیصد؛“

(k) کالم (1) میں، ٹیرف ہیڈنگ 9819.9300 کے بعد اور کالم (۲)

اور (۳) میں داخلوں کے سامنے مندرجہ ذیل کو شامل کیا جائے
گا؛

9819.9400 ٹیکنیکل ٹیسٹنگ اور ۱۵ فیصد؛“

اینالسیز سروس

9819.9500 رجسٹرار کی طرف ۱۵ فیصد؛“

سے مہیا کردہ یا کسی
معاملے پر پیش کردہ

خدمات

(1) کالم (1) میں ٹیرف ہیڈنگ 9820.2000 کے بعد اور کالم (۲)

اور (۳) میں داخلوں کے سامنے مندرجہ ذیل کو شامل کیا جائے
گا:-

9820.3000	الیکٹرک یا ۱۵ فیصد؛“
	الیکٹرانک سامان یا
	اوزار وغیرہ کے
	لیئے ورکشاپس،
	بشمول کمپیوٹر
	ہارڈویئر کے
820.4000	کار یا آٹو موبائل ۱۵ فیصد؛“
	واشنگ یا اسی قسم
	کی سروس اسٹیشنز
(m) کالم (1) میں، ٹیرف ہیڈنگ 9821.5000 کے بعد اور کالم (۲)	
اور (۳) میں داخلوں کے سامنے، مندرجہ ذیل کو شامل کیا جائے	
	گا؛
98.22	مخصوص مقاصد کے
	لیئے فراہم کی جانے
	والی اور پیش کی جانے
	والی خدمات
9822.1000	فیو ملکیشن سروسز ۱۵ فیصد؛“
9822.2000	مینٹنس اور کلیننگ ۱۵ فیصد؛“
	سروسز
9822.3000	جائٹوریل سروسز ۱۵ فیصد؛“ اور
(n) کالم نمبر (1) میں، ٹیرف ہیڈنگ 9831.1000 اور کالم (۲) اور	
(۳) میں داخلوں کے سامنے مندرجہ ذیل کو شامل کیا جائے گا؛	

<p>پرہوگرام پروڈیوسرز ۱۵ فیصد؛“ اور پروڈکشن ہائوسز کی طرف سے فراہم کی جانے والی اور پیش کی جانے والی خدمات کارپوریٹ کے لیے کنسلٹنٹ کی طرف سے فراہم کی جانے والی یا پیش کی جانے والی خدمات</p>	<p>9832.0000</p>
<p>کارپوریٹ کے لیے ۱۵ فیصد؛“ کنسلٹنٹ کی طرف سے فراہم کی جانے والی یا پیش کی جانے والی خدمات</p>	<p>9833.0000</p>
<p>فیشن ڈیزائرز کی ۱۵ فیصد؛“ طرف سے فراہم کی جانے والی یا پیش کی جانے والی خدمات</p>	<p>9834.0000</p>
<p>کال سینٹرز کی طرف ۱۵ فیصد؛“ سے فراہم کی جانے والی یا پیش کی جانے</p>	<p>9835.0000</p>

والی خدمات

انٹرسٹی ٹرانسپورٹیشن 15 فیصد؛“ 9896.0000

یاروڈ یا پائپ لائن یا
کنڈیٹ کے ذریعے
اشیاء کی کیرتج سے
متعلقہ شخص کی طرف
سے فراہم کی جانے
والی یا پیش کی جانے
والی خدمات۔

نوٹ: آرڈیننس کا مذکورہ ترجمہ عام افراد کی واقفیت کے لیے ہے جو کورٹ میں
استعمال نہیں کیا جاسکتا۔